
Sl. No.	Names of Members
---------	------------------

3. Mr. Muhammad Ibrahim Reki Baluch.
4. Haji Mir Rasool Bux Lehri.
5. Sardar Muhammad Hashim Khan Luni.
6. Sardar Muhammad Yousaf Sasole.
7. Sheikh Muhammad Islam.
8. Mr. Abdur Rehman Jamali.
9. Mr. M. Munir Afridi.
10. Nawabzada Jahangir Shah Jogezeai.
11. Nawabzada Sheikh Omer Khan.
12. Mir Yar Muhammad Rind.
13. Mir Yousaf Ali Magsi.
14. Mir Hussain Bux Bungulzai.

SPECIAL SEATS

1. Mr. Muhammad Ahmad Mirza.
2. Syed Faseih Iqbal.
3. Syed Muhammad Fazal Agha.
4. Mr. Muhammad Ishaq Baluch.
5. Mr. Abdul Rahim Mir Dad Khel.

N.W.F.P.

1. Mr. Akhtar Nawaz Khan.
2. Mr. Aman-i-Room.
3. Mr. M. Zahoor-ul-Haq.

LIST OF MEMBERS OF THE SENATE OF PAKISTAN

PUNJAB

Sl. No.	Names of Members
1.	Brig. (Retd.) Abdul Qayum Khan.
2.	Mahar Khuda Dad Khan.
3.	Amir Abdullah Khan Rokari.
4.	Mian Amir Haider Qureshi.
5.	Sahibzada Sultan Abdul Majid.
6.	Mr. Muhammad Tariq Chaudhry.
7.	Khawaja Kamal-ud-Din Anwar.
8.	Sardar Khizar Hayat Khan.
9.	Makhdoom Mohammad Sajjad Hussain Qureshi.
10.	Mr. Masood Arshad Gajial.
11.	Malik Mohammad Ali Khan.
12.	Khan Mohammad Akram Khan.
13.	Ch. Rehm Dad.

SPECIAL SEATS

1. Dr. Mahbubul Haq.
2. Dr. Muhammad Asad Khan.
3. Lt. Gen. (Retd.) Saeed Qadir.

BALUCHISTAN

1. Mir Nabi Bakhsh Zehri.
2. Haji Habibullah Khan.

Sl. No.	Names of Members
4.	Haji Muhammad Umar Khan.
5.	Mr. Salim Saifullah Khan.
6.	Syed Abbas Shah.
7.	Mr. Shad Muhammad Khan.
8.	Shahzada Burhan-ud-Din Khan.
9.	Mr. Ghulam Ishaq Khan.
10.	Mr. Fida Muhammad Khan.
11.	Qazi Hussain Ahmed.
12.	Mr. Muhammad Raza Khan.
13.	Mr. Muhammad Ali Khan.
14.	Major General (Retd.) Shirin Dil Khan Niazi.

SPECIAL SEATS

1. Mr. Sartaj Aziz.
2. Sahibzada Ilyas.
3. Mr. Ghulam Faruque.
4. Qazi Abdul Latif.
5. Maulana Sami-ul-Haq.

SENATORS FROM THE FEDERALLY ADMINISTERED TRIBAL AREAS

1. Nawabzada Inayat Khan.
2. Malik Faridullah Khan.
3. Malik Gulab Khan Mahsud.
4. Haji Sadullah Khan,
North Waziristan Agency.

Sl. No.	Names of Members
---------	------------------

5. Mr. Abdul Wahid.
6. Lt. Gen. (Retd.) Jamal Said Mian.
7. Sayyed Khial Sayyed Mian.
8. Malik Abdul Qayyum Khan.

S I N D

1. Pir Shah Mardan Shah Pir Pagara.
2. Mr. Mohammad Mohsin Siddiqui.
3. Syed Zulfiqar Ali Shah Jamote.
4. Mir Ghulam Hyder Talpur.
5. Shaikh Ejaz Ahmad.
6. Mr. Ahmed Mian Soomro.
7. Mir Ali Nawaz Khan Talpur.
8. Mr. Hamzo Khan Palijo.
9. Sardar Jam Tamachi Uner.
10. Mr. Asghar Ali Shah.
11. Mr. Jam Karam Ali.
12. Haji Mohammad Akram Sultan.
13. Prof. Khurshid Ahmed.
14. Al-Haj Pir Sayed Mohammad Shah Jeelani.

SPECIAL SEATS

1. Mr. Hasan A. Shaikh.
2. Mr. Javed Jabbar.

Sl. No. Names of Members

3. Mr. Rahat Saeed Chhatari.
4. Mr. Abdul Majid Kazi.
5. Shaikh Ali Muhammad.

FEDERAL AREA

1. Brig. (Retd.) Malik Muhammad Hayat.
 2. Sahabzada Yaqub Khan.
 3. Maulana Kausar Niazi.
-

**LIST OF FEDERAL MINISTERS/MINISTERS OF STATE
ON 20-3-85**

<i>S.No. Names of Minister</i>	<i>Portfolios</i>
1. Dr. Muhammad Afzal	Education, Religious Affairs and Minorities Affairs.
2. Mr. Ghulam Ishaq Khan	Finance, Economic Affairs, Commerce, Water and Power.
3. Vice Admiral (Retd.) Mohammad Fazil Janjua, HI(M)	Food, Agricultural and Cooperatives, Labour, Manpower and Overseas Pakistanis. Housing and Works.
4. Sahabzada Yaqub Khan	Foreign Affairs.
5. Lt. Gen. Sardar Farooq Shoukat Khan Lodhi, HI(M), S. Bt.	Interior.
6. Lt. Gen. (Retd.) Jamal Said Mian, HI(M), S. Bt.	Kashmir Affairs and Northern Affairs. Local

Sl. No. Names of Members

3. Mr. Rahat Saeed Chhatari.
4. Mr. Abdul Majid Kazi.
5. Shaikh Ali Muhammad.

FEDERAL AREA

1. Brig. (Retd.) Malik Muhammad Hayat.
 2. Sahabzada Yaqub Khan.
 3. Maulana Kausar Niazi.
-

**LIST OF FEDERAL MINISTERS/MINISTERS OF STATE
ON 20-3-85**

<i>S.No. Names of Minister</i>	<i>Portfolios</i>
1. Dr. Muhammad Afzal	Education, Religious Affairs and Minorities Affairs.
2. Mr. Ghulam Ishaq Khan	Finance, Economic Affairs, Commerce, Water and Power.
3. Vice Admiral (Retd.) Mohammad Fazil Janjua, HI(M)	Food, Agricultural and Cooperatives, Labour, Manpower and Overseas Pakistanis. Housing and Works.
4. Sahabzada Yaqub Khan	Foreign Affairs.
5. Lt. Gen. Sardar Farooq Shoukat Khan Lodhi, HI(M), S. Bt.	Interior.
6. Lt. Gen. (Retd.) Jamal Said Mian, HI(M), S. Bt.	Kashmir Affairs and Northern Affairs. Local

S. No. Names of Minister

Portfolios

- | | |
|--|--|
| | Govt. and Rural Development. Culture and Tourism. |
| 7. Dr. Mahbubul Haq | Planning and Development Health, Special Education and Social Welfare. Industries. |
| 8. Lt. Gen. (Retd.) Saeed Qadir, HI(M), S. Bt. | Production and National Board, Railways. Communications. |

MINISTERS OF STATE

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mr. Sartaj Aziz | Food, Agriculture and Cooperatives. |
| 2. Dr. Muhammad Asad Khan | Petroleum & Natural Resources. |

SENATE OF PAKISTAN

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Chairman : | Mr. Ghulam Ishaq Khan. |
| Dy. Chairman : | Makhdoom Sajjad Hussain Qureshi. |
| Secretary : | Mr. Muhammad Amin-ul-Haq. |
| Joint Secretary : | Mr. Aziz Ahmad Qureshi. |
| Dy. Secretary : | Mr. Akhtar Hussain Khan. |
| Dy. Secretary : | Mr. Karim Khan Marwat. |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SENATE DEBATES
SENATE OF PAKISTAN

Thursday, the 21st March, 1985

The Senate of Paksitan met in the Senate Chamber (State Bank Building) Islamabad, at 7'o' Clock in the evening, Chief Election Commissioner (Mr. Justice S. A. Nusrat) in the Chair.

RECITATION FROM THE HOLY QURAN

ان اللہ یا صر بالعدل والاحسان وایتای ذی الصریٰ ونیسی
عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذكرون ۝ او فو
بعهد اللہ اذا عاهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا وقد جعلتم
اللہ علیکم کفیلاً۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون ۝

(ترجمہ) اے ایمان والو اللہ تعالیٰ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور
رشتہ داروں کو (خرچ سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول
کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد
رکھو۔ اور جب خدا سے عہد واثق کرو تو اس کو مت ٹوڑو۔ تم خدا کو اپنا ضامن
مقرر کر چکے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو جانتا ہے۔

جناب والا! آپ کی صلاحیتیں آپ کے کام آئیں۔ میرا آپ سے اس وقت سے رابطہ قائم ہے جب آپ سول سروس صوبہ سرحد میں تھے اور اس وقت آپ کو چیف منسٹری پیش کی گئی لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت میں صوبہ سرحد اسمبلی کا ممبر تھا آپ نے بہت کام اس وطن کی بہتری کے لئے کئے ہیں اور آپ کا چناؤ صوبہ سرحد کے لئے فخر کا مقام ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس منصب و عہدہ جلیلہ پر فائز رہ کر اپنے اس کارہائے نمایاں کو مزید اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے، دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔ جناب مولانا سمیع الحق صاحب۔

مولانا سمیع الحق : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ،

مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ۔

پاکستانی تاریخ کے اہم موڑ پر ایک متقل ایوان کی جو ایوانِ بالا کہلاتا ہے، قیادت آپ جیسے تجربہ کار، مدبر اور زریک انسان کے حوالے کر دی گئی ہے اور ایک منتخب جمہوری ادارے کے ذریعے نئے دلوں اور ایمان و یقین کے ساتھ اس حق کی طرف گامزن ہو رہی ہے جس کی منزل حقیقی، نفاذِ اسلام کا مکمل نفاذ ہے۔ ایسی صورتِ حال میں، اس معزز ایوان کا اس اتفاق رائے سے، یکجہتی سے آپ کو منتخب کرنا ایک خوش آئند فال ہے انشاء اللہ یہ ایوان اس منزل حقیقی نفاذِ اسلام سے ہمکنار کرانے میں بھی اسی طرح اتفاق یکجہتی اور بھرپور تعاون کا اظہار کرے گا۔ جیسا کہ یہ منصب جلیلہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق بھی دے اور قوم جو نفاذِ اسلام کو مکمل شکل میں دیکھنے کی منتظر ہے، آپ اس قوم اور اس ایوانِ بالا کی بھرپور قیادت کر سکیں۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔ جناب حمزہ خان۔

جناب حمزہ خان پلمبو : میں ذاتی طور پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سندھ کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اور سندھ کے عوام آپ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی، سماجی اور اقتصادی مسائل ہیں ان کو آپ ضرور ترجیح دیں گے۔ شکریہ۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔ جناب جاوید جبار۔

Mr. Javed Jabbar : Mr. Chairman, Sir while I present my humble congratulations to you on your election, I would like to respectfully submit that while the Senate as an august national forum does represent within its membership a wide cross-section of the intelligentsia and of the people from public life, I believe that it does not entirely represent all streams of public opinion in this country today and I do earnestly hope that under your tenure we will be able to ensure that all aspects of public opinion in Pakistan will find expression not only in this forum but in public life also in the near future. Thank you.

جناب چیئرمین : پروفیسر خورشید احمد صاحب
پروفیسر خورشید احمد : میں اس تاریخی موقع پر اپنے رفقاء ایوان کے ساتھ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ملک میں ذمہ داری کے ایک بڑے اونچے منصب پر فائز ہونے کا موقع دیا ہے اور جہاں یہ بہت بڑا اعزاز ہے وہاں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور آزمائش بھی ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میں بلاخوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ ان چند انسانوں میں سے ہیں جن کے ساتھ کام کرنے میں بھی لطف ہے اگرچہ چند امور میں میرا اور آپ کا اختلاف رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے پاکستان کے ساتھ جس محبت اور جانفشانی کے ساتھ کام کیا ہے ہم سب نے اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس انتخاب پر جہاں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں وہاں اپنے آپ کو اور اس ایوان کے ہر فرد کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھی قیادت کے تحت ایک نئے دور میں قدم رکھ رہے ہیں۔

جناب چیئرمین! اس وقت ہیں یہ بات سامنے رکھنی چاہیے۔ میرے ان الفاظ کو آپ ایک جبارت محسوس نہ کریں، کہ خود آپ کی زندگی میں یہ ایک بہت بڑا موڑ ہے۔ آج تک آپ نے ایک اعلیٰ سروٹ کی حیثیت سے، ایک وزیر کی حیثیت سے کام کیا ہے ممکن اب جس دور میں آپ نے قدم رکھا ہے اس میں آپ کی حیثیت محض منصب پر فائز ہونے کی نہیں، جیسے کسی سلیکشن بورڈ یا کسی پبلک سروس کمیشن سے منتخب ہوا ہو۔ اب آپ اس ملک کے عوام کے منتخب کردہ سینٹرز کے نمائندے ہیں اور نمائندگی کا یہ فرض آپ کی زندگی میں گویا ایک نئے دور کا آغاز کر رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے پچھلے دور میں اس کے حالات کے مطابق بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا بڑی محنت کے ساتھ کام کیا ہے اسی طرح اس نئے دور میں بھی آپ ایک اچھی مثال قائم کریں گے۔

میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ایوان کو ایک شوریٰ قرار دیا ہے۔ مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شوریٰ کا لفظ ٹھیک معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور غلط معنوں میں بھی۔ اسلام میں شوریٰ ایک بڑا مقدس فرض ہے۔ قرآن مسلمانوں کی یہ خصوصیت قرار دیتا ہے۔ "وامرہم شوریٰ بینہم" ان کے معاملات طے ہی باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ یہ شوریٰ محض ایک advisory ادارہ نہیں، یہ شوریٰ قوم کی امانت لئے ہوتے ہے، آپ اور یہ پورا ایوان اور اس کے ساتھ نیشنل اسمبلی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح عوام کے حقوق محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ان کے اختیارات کا پورا پورا احساس کریں۔ ان کے مسائل، ان کی مشکلات اور ان کے دکھوں کو ہم دیکھیں۔ اور ایسا نظام قائم کریں جس میں شوریٰ ایک فائنل اتھارٹی ہو، محض مشورہ دینے والا ادارہ نہیں۔ آپ کو اور اس ایوان کو خود اپنی حیثیت کا تعین کرنا ہے اور اپنے کردار کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کی نازک ذمہ داری اگلے دور میں ادا کرنی ہے۔

میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہمیں توقع ہے کہ دو دن کے اندر، ۲۳ تاریخ کو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، ہماری دعا اور تمننا ہوگی کہ وہ دن مارشل لاء کا آخری دن ہو اور ہم ایک حقیقی جمہوری دور میں قدم رکھیں اور اب جو constitutional ادارے قائم ہوئے ہیں آئندہ فیصد کن قوت سے یہ کانسٹیٹیوشنل ادارے بنیں۔ اگر کسی بناء پر ہم یہ خوشخبری نہ سن سکیں تو بھی مجھے توقع ہے کہ کم از کم برسوں میں معلوم ہو جائے گا کہ آئندہ مارشل لاء کی عمر کتنے دن ہے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اس ایوان کی ذمہ داری ہے، یہ نیشنل اسمبلی کی ذمہ داری ہے کہ عوام نے جو اعتماد ہم پر کیا اب ہم اس اعتماد کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔

آئندہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اتفاق رائے سے آپ کو منتخب کیا گیا ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس امت میں مختلف نقطہ ہائے نظر، مختلف افراد اور مفادات کے باوجود یک رنگی یکساں اور مفاہمت پیدا ہو سکتی ہے۔ آج اس ملک کو، اس قوم کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، اگرچہ اسے بہت سے زخم لگے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے انتخاب میں شرکت کی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے انتخاب میں شرکت نہیں کی، وہ جو کامیاب ہوئے ہیں اور وہ جو ناکام ہوئے ہیں، ہم سب اس امت کے فرد ہیں، کہ اس نئے دور میں دلوں کو جوڑا جائے، زخموں پر پھلے رکھے جائیں، محبت و دوستی آشتی کا پیغام دیا جائے اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سب مل کر اپنے مقصد یعنی اسلام کے قیام کے لئے جدوجہد کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں میں آپ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اس ایوان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو ذمہ داریاں آپ پر پڑی ہیں ان کو پورا کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں آپ کو رہنمائی دے، اس لئے کہ اسلام میں ذمہ داری کے منصب کے بارے میں جیسا

کہ خلیفہ اول نے کہا، یہ دراصل اپنے آپ کو آگ میں کھینچنے کے مترادف ہے، جو تاج رکھا جا رہا ہے یہ کانٹوں کا تاج ہے اور اگر آپ نے اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام دیا تو قوم بھی آپ کی شکر گزار ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ اس معاملے میں ہر وہ شخص جسے ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ فیل ہوتا ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا سودا ہے۔ اس لئے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے بہترین توفیق اور بہترین راہنمائی کی دعا کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہر خبر کے اندر ہر نیک کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور جہاں کہیں ہم غلطی دیکھیں اس پر ہمیں تنقید تو کرنا ہے، صاف بات ہے۔ اس لئے کہ قرآن نے ہمیں جو اصول سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ تعاونوا بالبر والاعمال تعاونوا بالاثم تعاون کرو ہر نیک اور اچھے کام میں اور ہر برائی اور غلط چیز پر احتساب کرو۔ اس کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ ہوگا ہمارا کرائیوٹیریا (criteria) ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : شکریہ۔

Mr. Ejaz Ahmad : Sir, first of all I would like to congratulate you on your election as Chairman by a unanimous decision. Sir, I shall be failing in my duty if I do not express my feelings for the important role played by you for the development of the economy of the country. Sir, the monetary and fiscal policies initiated by you have brought the country on the threshold of industrial growth. I hope, Sir, the policies initiated will lead us to the 'take off' stage and very soon our country will develop as a great industrial country. I hope yours efforts as Finance Minister will be followed up by a suitable person who will continue the economic policies initiated by you. Thank you, very much.

Mr. Chairman: Thank you. Mr. Faridullah Khan.

ملک فرید اللہ خان : جناب چیئرمین ! میں وفاق کے زیر اہتمام قبائلی

علاقوں کی جانب سے بحیثیت نامزدہ آپ کو چیئرمین کے عہدے پر فائز ہونے کی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح اس معزز ایوان کے اراکین نے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کیا ہے، اسی طرح آپ اس ایوان کے وقار کو بڑھانے کے لئے جدوجہد کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قوم کو جو امیدیں ہم سے وابستہ ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

جناب چیئرمین: بہت بہت شکریہ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، نَعْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ۔

معزز اراکین! میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے متفقہ طور پر اس عظیم ادارے کے چیئرمین کی حیثیت سے میرا انتخاب فرمایا اور مجھ کو یہ خطیر ذمہ داری سپرد کی جس کی پروفیسر نور شید صاحب نے بہت واضح الفاظ میں وضاحت کی ہے۔ آپ حضرات قوم کے نمائندوں کے نامزدے ہیں اور آپ کی دانائی، حکمت اور بصیرت پر قوم نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ آپ کا یہ اعتماد میرے لئے ایک اثاثہ ہے اور اس ذمہ داری کے احساس سے میری گردن جھکی جاتی ہے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ آپ نے میری خدمات کی جو بھرپور تعریف کی ہے میں کہاں تک اس کا مستحق ہوں۔ بہر حال میں آپ سب حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ان صاحبان کا یعنی فدا محمد خان صاحب اور پیر عباس صاحب کا جنہوں نے اپنی نامزدگیاں withdraw کر کے یعنی واپس لے کر میرے انتخاب کو متفقہ ہونے دیا۔

میں آپ حضرات کو اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کو صدق دل سے یقین دلاتا ہوں کہ اگر خداوند تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا تو میں اپنی تمام صلاحیتیں اس کام کے لئے وقف کروں گا کہ اس ایوان کا وقار بلند ہو اور اس ایوان کے ہر رکن کو بلا خوف و خطر اپنا حق

نمائندگی ادا کرنے اور اپنی فکری صلاحیتوں کے مطابق اظہار رائے کرنے کی مکمل آزادی میسر ہو۔ میرے لئے تمام ممبران کی حیثیت اور ان کے حقوق مساوی ہیں۔ سینٹ کے رکن کی حیثیت سے ان کے درمیان کسی امتیازی سلوک کی دیدہ دانستہ کوئی گنہائش نہیں رکھی گئی جائے گی۔

اس کے ساتھ ہی آپ کے تعاون کا محتاج ہوں اور قدم قدم پر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ دراصل اس ایوان کے وقار کو قائم رکھنا اور اس کے تعمیری کردار کو مستحکم کرنا ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ ہم ضبط نفس، تحمل اور بردباری کے ذریعے باہمی رواداری کی ایسی فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ جہاں اختلافات کے باوجود مشترکہ حل تلاش کئے جاسکیں۔

دستور کے مطابق سینٹ کی ذمہ داری ایک ایسے وفاقی ادارے کی ہے جس میں صوبوں کی مساوی نمائندگی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس طرح تمام صوبوں کو وفاقی سطح پر آبادی اور رقبے کے تناسب سے قطع نظر برابر کی شرکت کا احساس اجاگر ہونا چاہیے۔ خاص طور پر اب جب کہ حالیہ دستوری ترامیم کے ذریعہ اس ادارے کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کو مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں۔ صوبوں کی وفاقی امور میں فعال شرکت کے ذریعے ایک مشترکہ قومی فکرو نظر کی تشکیل سینٹ کا بنیادی تصور ہے۔ اس مقصد کے لئے دستور میں اس ادارے کو اہمیت دی گئی ہے اور اس ایوان کو بحال کیا جا رہا ہے۔ اس بنیادی تصور کو پیش نظر رکھنا اور اس تصور کا استحکام ہم سب کا مشترکہ فریضہ ہے۔ پاکستان کی وحدت کی بنیادیں مشترکہ کوشش اور مشترکہ قومی فکرو نظر کے علاوہ اور صوبائی امنگوں کے ساتھ مربوط کرنے سے ہی مضبوط ہوں گی۔ کثرت اور وحدت میں ایک لحاظ سے کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ تصوف میں تو کثرت کا تصور وحدت کے ادراک کا راستہ ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس تصور سے نا آشنا نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عملی زندگی میں بھی ہم وحدت کے امور کو اچھی طرح سمجھ کر

اس کو اپنائیں۔

سینٹ کے بنیادی تصور میں یہ امر بھی شامل ہے کہ اس ادارے میں فکر کی پختگی اور دور اندیشی، سیاسی عمل سے وابستہ جذباتیت کے سیل بکراں میں ٹھہراؤ پیدا کر سکے۔ قومی زندگی کے مختلف اداروں سے افراد کا انتخاب جو اپنے اپنے میدان میں قابلیت اور فکر و نظر کی وسعت اور گہرائی کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں اور جو ایک طویل عرصہ تک ایک مخصوص دشت کی سیاہی کے بعد، اور اس صحرا نوردی میں جیسا کہ ذکر کیا گیا میں خود بھی شامل ہوں، اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس محفل میں اصحاب فکر و نظر کا اجتماع ہے۔ صلاحیتوں کے اس اجتماع سے قانون سازی اور قومی حکمت عملی کی تشکیل میں پوری طرح فائدہ اٹھا کر ہی ہم دستور کے اس مقصد کو پورا کر سکتے ہیں جس کے تحت اس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے۔ آپ حضرات ایک سیاسی عمل کے ذریعہ اس مقام تک پہنچے ہیں لیکن اس ادارے کے اراکین کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ عمومی سیاست اور علاقائی سوچ سے بلند ہو کر ہر امر کا جائزہ اس کے دور رس نتائج کی روشنی میں لیں اور طویل المدت قومی مقاصد کی طرف پیش قدمی کو مقدم رکھیں۔

اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ قومی زندگی کے اس نئے دور میں تمام قانون ساز اداروں کو اور خاص طور پر سینٹ کو اسلامی نظام کے قیام سے متعلق نامکمل ایجنڈے کو اولیت دینی ہوگی۔ آپ کو علم ہے کہ گذشتہ سات سال کی مدت میں اسلامی نظام زندگی کو عملاً پاکستان میں رائج کرنے کے کام میں ترجیحی بنیادوں پر تیزی سے پیش قدمی کی گئی۔ میں بلاخوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس عرصہ میں جو نتائج حاصل ہوئے وہ پاکستان کی اس سے قبل کی تاریخ میں مجموعی طور پر حاصل کردہ پیش قدمی سے کہیں زیادہ تھے۔ تاہم منزل ابھی بہت دور ہے۔ یہ امانت اب آپ کے سپرد کی گئی ہے اور آپ کو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ سینٹ کو جو

تانون سازی کے اختیارات حاصل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم کو ایک منصفانہ اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لئے تجاویز اور قوانین مرتب کرنے چاہئیں تاکہ بدعنوانی، رشوت ستانی اور دیگر معاشی اور معاشرتی عیوب کا قلع قمع کیا جائے۔ کم خرچ اور فوری انصاف کے لئے اسلامی بنیادوں پر عدالتی نظام کی تشکیل نو کی جائے اور اس طرح صحیح معنوں میں عدل اور احسان کی بنیادوں پر اسلامی معاشرہ کے قیام کی راہ ہموار کی جائے۔

جیسا کہ آپ صاحبان جانتے ہیں سینٹ ایک مستقل ادارہ ہے اور اس کی تشکیل میں تسلسل کا عنصر شامل کیا گیا ہے جس کام کی آپ آج ابتداء کریں گے وہ ادارے کی فکری بنیادوں میں شامل ہو کر ایک مسلسل عمل بن سکتا ہے ہر دو سال کے بعد ایک تہائی اراکین کے لئے انتخاب کے ذریعہ نیا خون اور نئی فکری بھی اس ادارے کے عملی کردار پر اثر انداز ہوتی رہے گی۔ اس طرح تغیر و تبدل اور روایات کو سمو کر مسلسل اور اور متوازن تبدیلی کا سامان کیا گیا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ نئے اور پرانے نظریات میں تصادم کی بجگہ اشتراک عمل سے ایسی نئی راہوں کی تلاش میں کوشاں رہیں۔ جن کا رابطہ ہر دم ہماری تاریخ، ہماری ثقافت اور ہمارے بنیادی قومی نظریات سے قائم ہے۔

اس ضمن میں (یعنی ایک تہائی ممبران کا ہر دو سال بعد از سر نو انتخاب) جہاں تک ان تجاویز کا تعلق ہے جو زہری صاحب اور ایک اور دوست نے پیش فرمائیں ان کو قواعد کے مطابق ہی نمٹانا پڑے گا۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس سٹیج پر قواعد سے انحراف کی روایت کی داغ بیل نہیں ڈالنی چاہئے۔ یہ ہی تجاویز ریزولوشن کی شکل میں، جن کا قواعد کے مطابق نوٹس دینا پڑتا ہے، اگر آجائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ ایوان اس پر انتہائی ہمدردی سے غور کرے گا۔

ادارے ہی قوم کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں اور قوم کی تخلیقی صلاحیتوں کو راہ عمل فراہم کرتے ہیں۔ ادارے روایات کو جنم دیتے ہیں اور یہی روایات اداروں کو استحکام بخشتی ہیں۔ آج جب کہ احواء جمہوریت کا عمل جمہوری اداروں کے ازسرنو قیام سے شروع ہو رہا ہے قوم کے لئے یوم مسرت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ملک کی مختصر تاریخ میں ان اداروں کی جمہوری روایات کا ورثہ بہت ہی محدود ہے۔

حضرات! ہم ایک تاریخ ساز دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم کو خود ایسی روایات کی بنا ڈالنی ہوگی جو ان اداروں کو ناقابل شکست و ریخت بنا دیں۔ آپسے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم قومی فرائض کی ادائیگی، ایمانداری، حب الوطنی، لگن اور باہمی افہام و تفہیم کی ایسی روایات قائم کریں کہ آئندہ نسلیں ہم پر فخر کر سکیں اور یہ روایات جمہوری بنیادوں پر مضبوط اور ناقابل تسخیر پاکستان کی تاریخ کا پیش خیمہ اور سنگ میل بنائیت ہوں۔

اللہ تعالیٰ سے میری بصد عجز یہ دعا ہے کہ وہ مجھے اس نئی ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برآ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اب جب کہ ارادہ کر لیا ہے ہم سب کو اس عزم میں کامیاب کرے۔ فافا
عزمتے فتوکل علی اللہ

جناب چیئرمین - حضرات، ایجنڈے کے مطابق اب ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے۔ اس کے لئے آج بارہ بجے دن تک حسب ذیل نامزدگیاں موصول ہوئی ہیں۔ - - - -

میر نبی بخش زہری : جناب چیئرمین، آپ نے فرمایا ہے کہ ریزولوشن کی صورت میں لائیں تو ابھی اس کا موقع ہے کہ جناب صدر سے آپ مشورہ کریں اور وہ ایک سہیل (انگریزی) ترمیم کر سکتے ہیں۔ ہم تمام ممبران کا یہ فیصلہ ہے اور میں ممبران سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ سب لوگ یہ کہیں کہ یہ مسئلہ صدر صاحب کو پیش کریں اور ترمیم کریں۔

Point of Order

Mr. Hasan A. Shaikh : Sir, kindly see Article 65 of the Constitution under which oaths are being taken and you also please see that the present sitting is in contravention of that provision of the Constitution. Article 65.

Mr. Presiding Officer (Mr. Justice S.A. Nusrat) : The Constitutional provisions have been taken care of.

Mr. Hasan A. Shaikh : No, it is not amended. It is not amended. In the Revival of 1973 Constitution Order, Article 65 has not been amended.

Mr. Presiding Officer : Your objection is over-ruled. I am going to proceed ahead.

معزز اراکین سینٹ : اسلام و علیکم ! اس تاریخی تقریب سعیدہ کے موقع پر سب سے پہلے میں آپ کو سینٹ کے اراکین کی حیثیت سے منتخب ہونے پر دلی مبارک باد پیش کرتا ہوں۔ آج صبح تومی اسمبلی نے اسلام آباد سے سینٹ کے لئے تین اراکین کا انتخاب کیا جو اس وقت ایوان میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے ایکشن کے بعد ایوان بالا الحمد للہ مکمل ہو چکا ہے۔ تومی اسمبلی اور سینٹ کے انتخابات بخیر و خوبی تکمیل پائے۔

مجلس شوری (پارلیمنٹ) جو کہ ان دونوں ایوانوں پر مشتمل ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ایک شہری دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات حلف لیں گے۔ اس کے بعد ایوان کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ اب میں حلف برداری کے طریق کار کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حلف نامے کی نقل ہر معزز رکن کے سامنے ڈیسک پر رکھی ہوئی ہے۔ معزز اراکین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر باواز بلند میرے ساتھ حلف اٹھائیں ہر رکن فرداً فرداً اپنا نام پکارے اس کے لئے جگہ

ELECTION OF DEPUTY CHAIRMAN

جناب چیمبرمین - میرے خیال میں جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ کر دیا، آپ صاحبان نے خود صدر صاحب کے سامنے معروضات پیش کی ہیں میں خود بھی ہاؤس کا جو *Senate* ہے وہ ان کو (پریسمنٹ) کر دوں گا لیکن میں فارمل کارروائی کے طور پر کہتا ہوں کہ اس طرح قواعد سے انحراف میرے خیال میں اچھی روایت کا پیش خیمہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس ہاؤس میں ان روایات اور قواعد کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا اگر ہمیں ملک و قوم کے مفاد میں کام کرنا ہے تو میرے خیال میں اس بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج بارہ بجے دن تک حسب ذیل نامزدگیاں موصول ہوئی تھیں جناب حسین بخش صاحب، نامزد رکن جن کو جناب رسول بخش صاحب نے تجویز کیا تھا۔ جناب محمد ابراہیم بلوچ صاحب جن کو عبدالرحیم میرداد صاحب نے تجویز کیا تھا۔ جناب احمد میاں سومرو صاحب جن کو میر یوسف علی خان نے تجویز کیا تھا۔ جناب سید محمد فضل آغا جن کو حاجی حبیب اللہ خان نے تجویز کیا اور آخر میں پانچواں نمبر مخدوم محمد سجاد حسین قریشی صاحب کا ہے جن کو ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے تجویز کیا تھا۔ صورت حال یہ ہے کہ ان میں سے جناب حسین بخش صاحب، محمد ابراہیم بلوچ صاحب، احمد میاں سومرو صاحب، سید محمد فضل آغا صاحب نے اپنی اپنی نامزدگیاں واپس لے لی ہیں اس لئے صرف مخدوم محمد سجاد حسین قریشی صاحب کی نامزدگی ڈپٹی چیمبرمین سینٹ کے عہدہ کے لئے باقی رہ گئی ہے اس لئے قواعد ضابطہ کار برائے سینٹ ۱۹۷۳ء کے قاعدہ نمبر ۱۱ شق نمبر ۱ اور قاعدہ نمبر ۹ شق نمبر ۵ کے تحت میں مخدوم محمد سجاد حسین قریشی کو ڈپٹی چیمبرمین کے عہدہ کے لئے منتخب قرار دیتا ہوں۔ میں ہاؤس کی طرف سے جناب مخدوم محمد سجاد حسین قریشی صاحب اور اپنی طرف سے اس عہدہ پر منتخب ہونے پر

مبارک باد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ
برائے مہربانی یہاں آکر ایوان کے سامنے اپنے عہدہ کا حلف اٹھائیں۔

OATH-TAKING OF DEPUTY CHAIRMAN

جناب مندوم محمد سجاد حسین قریشی صاحب نے ڈپٹی چیئرمین کے عہدہ
کا حلف اٹھایا۔

Mr. Chairman : Now, I read the prorogation order.

“In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President has been pleased to prorogue the Senate from the 23rd March, 1985”.

(The Session was adjourned *sine die*).

مبارک باد پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ
برائے مہربانی یہاں آکر ایوان کے سامنے اپنے عہدہ کا حلف اٹھائیں۔

OATH-TAKING OF DEPUTY CHAIRMAN

جناب مندوم محمد سجاد حسین قریشی صاحب نے ڈپٹی چیئرمین کے عہدہ
کا حلف اٹھایا۔

Mr. Chairman : Now, I read the prorogation order.

“In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President has been pleased to prorogue the Senate from the 23rd March, 1985”.

(The Session was adjourned *sine die*).

خالی رکھی گئی ہے۔ سینٹ کے قانون ۱۹۷۳ء کی رو سے یہ بھی ضروری ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد متعلقہ رجسٹر پر دستخط کئے جائیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ حلف اٹھانے کے بعد تمام اراکین سینٹ متعلقہ رجسٹر پر اپنے دستخط ثبت فرمائیں، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ رسم حلف برداری کے لئے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔

OATH-TAKING AND SIGNING OF THE ROLL OF MEMBERS

Mr. Hasan A. Shaikh : Sir, I am on a point of order.

Mr. Presiding Officer : I am proceeding ahead with the proceedings I do not want to disturb the House on this solemn occasion when we are meeting today here.

(Collective oath taken in Urdu)

Mr. Rahat Saeed Chhatari : Mr. Chairman, Sir, I am on a point of information.

Mr. Presiding Officer : It is not a House where questions can be raised or any point of order can be raised. Certain solemn duties are being performed and I request you kindly to take your seat and see that the House is properly put in order. We have taken oath and I am not here to hear any point of order at all. It is not part of my jurisdiction.

Mr. Rahat Saeed Chhatari : It is relating to the oath that I want to point out.

Mr. Presiding Officer : The oath has been prescribed by the Constitution and we have taken it already. You should not have taken it if you are so minded.

Mr. Rahat Saeed Chhatari : No, no, that is not the point. The point is that if I have to defend the Constitution of Pakistan, whether I should defend the 1973 Constitution or as the one recently amended.

Mr. Presiding Officer: Mr. Chhatari, may I tell you that you have already taken the oath and whatever oath may be, you have got to abide by it. That is the end of it.

اب میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک طرف سے جو جس طرف سے آپ مناسب سمجھیں، میرے خیال میں داہنے ہاتھ کی پہلی سیٹ سے آپ شروع کریں۔ اور باری باری یہاں تشریف لائیں تاکہ یہاں پر زیادہ اجتماع نہ ہو، جناب سومرو صاحب تشریف لائیں۔ سومرو صاحب دستخط کرنے کے لئے آئے جناب آپ اس پر تاریخی دستخط ثبت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس پورے ایوان کو خوش رکھے اور آپ پاکستان کی ایسی خدمت انجام دیں کہ ملک اس کی تعریف کرے۔

لیکن باری باری دستخط کرنے کے لئے آئے اور رجسٹر پر دستخط ثبت فرمائے

ELECTION OF CHAIRMAN

جناب پریذائٹنگ افسر: اب جب کہ تمام اراکین دستخط کر چکے ہیں، اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج بارہ بجے دن تک حسب ذیل نامزدگیاں موصول ہوئی تھیں۔ جناب فدا محمد خان صاحب کا نام صاحبزادہ محمد الیاس صاحب نے تجویز کیا تھا اور ایک اور نامزدگی فدا محمد خالص صاحب کے لئے تھی اور اسکو مولانا سمیع الحق صاحب نے تجویز کیا تھا تیسری ایک اور نامزدگی فدا محمد خان صاحب کے حق میں تھی۔ اور جناب شاہ مردان شاہ صاحب نے اس پر تجویز کنندہ کی حیثیت سے اپنے مبارک دستخط ثبت فرمائے تھے۔ اس کے بعد جناب غلام اسحاق خان صاحب کے لئے جناب سعید قادر صاحب نے نامزدگی کا کاغذ داخل کیا اور آخر میں پانچ نمبر پر سید عباس شاہ صاحب کا نام ہے اور آخر نواز خان صاحب کی طرف سے تجویز کے سجانے پر ان کا کاغذ نامزدگی موصول ہوا۔

اب ان سے جناب فدا محمد خان صاحب اور سید عباس شاہ صاحب نے اپنی نامزدگی واپس لے لی ہے۔ اس طرح چیئرمین سینٹ کے عہدے کے

لئے صرف جناب غلام اسمحاق خان صاحب کی نامزدگی باقی رہ جاتی ہے، الحمد للہ! اس ایوان ہالانے ایک ایسی یک جہتی اور نظم کا مظاہرہ کیا ہے جو اس ایوان کی ابتداء ہی میں سامنے آیا ہے وہ اس طرح کہ جناب غلام اسمحاق خان صاحب کے مقابلے میں جن حضرات نے کاغذات نامزدگی داخل کئے تھے انہوں نے اب کاغذات نامزدگی از خود واپس لے لئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان ہالانے ایک نیک فال ہے۔ خداوند عالم آپ کو ایسے ہی مستفاد فیصلے کرنے کی باوقار توفیق عطا فرمائے۔ آمین! اس لئے قواعد و ضوابط کار و انصرام کارروائی و ضوابط کاروبار سینٹ ۱۹۷۳ء کے قاعدہ ۱ کے ذیلی قاعدہ (الف) اور قاعدہ نمبر ۱۵، ۱ کی رو سے جناب غلام اسمحاق خان صاحب کو چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لئے منتخب قرار دیا جاتا ہے۔ اتفاق رائے سے منتخب ہونے پر جناب غلام اسمحاق خان صاحب کی خدمت میں میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ معہ بانی فرما کر یہاں تشریف لاکر ایوان کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں۔

OATH-TAKING OF CHAIRMAN

جناب غلام اسمحاق خان صاحب نے بطور چیئرمین سینٹ حلف اٹھایا۔ جناب پریذیڈنٹ گانگ آفیسر۔ اس کے بعد میرے فرائض ختم ہو جاتے ہیں جناب غلام اسمحاق خان صاحب سے جو اس منصب جلیلہ پر، الحمد للہ، اتفاق رائے سے منتخب ہونے ہیں میں درخواست کروں گا کہ اب وہ اس کرسی پر تشریف رکھیں اور باقی کارروائی وہ خود کریں جناب غلام اسمحاق خان صاحب! اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ تشریف رکھئے۔ اس مرحلے پر جناب اسمحاق خان صاحب چیف الیکشن کمشنر کی جگہ کرسی صدارت پر متمن ہوئے۔

FELICITATIONS ON ELECTION OF CHAIRMAN

جناب احمد میاں سومرو: جناب چیئرمین صاحب! میں آپ کو اس اگست / ستمبر کے چیئرمین کے عہدے پر کامیاب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سبب اس نے آپ کو بیک رائے elect کر کے آپ پر اپنے

اعتماد کا اظہار کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس اعتماد کو پوری طرح قائم رکھیں گے اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس ہاؤس کے ڈیکورم کو برقرار رکھنے اور اس ایوان ہالا ہاؤس کی روایات قائم کرنے میں آپ سے پوری طرح تعاون کریں گے۔ میں آپ کو اس بات پر مبارک باد دیتا ہوں۔

جناب چیئرمین (جناب غلام اسحاق خان)؛ بہت بہت شکریہ !
 جناب حسن اے شیخ : جناب والا ! اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں کہ آپ اس عہدہ پر فائز ہو گئے ہیں ، میں بہت خوش ہوں کہ آپ اتفاق رائے سے فائز ہو گئے ہیں۔ عام طور پر سینٹ کی چیئرمین شپ یا کسی پارلیمنٹ کی سپیکر شپ متفقہ رائے سے ہوتی ہے اور اسی کو بہترین سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی وہ صلاحیتیں جو آپ نے چالیس سال محنت سے کمائی ہیں۔ آپ کے کام آئیں گی۔ آپ نے ہمیشہ اونچے درجے پر رہ کر اپنی قوم کی راہنمائی کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ سینٹ کی بھی راہنمائی کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے فرض کی ادائیگی میں کامیاب ہوں۔

جناب چیئرمین - بہت بہت شکریہ ، جناب محمد علی ہوتی صاحب -

Mr. Muhammad Ali Khan : Mr. Chairman, Sir, I consider it an honour for you on this occasion. Sir, I consider, you are the most appropriate person to occupy this Chair. God Almighty has endowed you with great qualities of head and heart and I am sure that under your able guidance this House would prove its worth. Sir, in the past we have had very bitter experience of a Government which ruled this country under the garb of democracy. In those days the lives and honour and belongings of the people were not safe. A reign of terror was let loose and peaceful citizens of the country were striving hard to save their self respect. It was at that time that Martial Law had been declared. During the Martial Law not only stability was given to this country but the country moved towards Islamization in all aspects of our national life. A very good beginning has been made to achieve our goal of making this country a portrait of Islam because we under the banner of the Muslim League created this

country in the name of Islam. This great step of the President can only meet with success if the Government officials and the representatives of the people work together in harmony.

Sir, I am sure you would defend the rights of the Members of this august House in the discharge of their duties and we on our part assure you of our full cooperation and support in the discharge of your onerous duties. With this I once again congratulate you from the core of my heart. Thank you.

Mr. Chairman : Thank you, Mr. Ghulam Faruque.

Mr. Ghulam Faruque : Mr. Chairman, I have the privilege of having known you for a very longtime *i.e.* from 1948 onward and perhaps claiming the privilege of one of the senior most members of the civil service, I beg to offer you my sincerest congratulations on your unanimous election to the high office of Chairmanship of this august House. I must make it clear that you were the most loved and dedicated servant of Islam and Pakistan.

During the last budget debate many people had a feeling that before the next budget 1985-86, there would be great changes in the political structure of the country and you would be laying down the reigns of your custodianship and stewardship of the national affairs of the country. In my speech I had made comparison of your career as a civil servant and as a Minister of the Government to another great economist and economic builder of this century, Dr. Ludwick economic builder of modern Germany. Your record and achievement all along has all the same ideal for your country, your honesty of purpose, unparalleled devotion to your task and above all no favours, no partiality and a will to do the correct things. May you be successful in your new office and may God continue to bestow upon you the Divine guidance to a great success of your present task. *Amin.*

میر نبی بخش زہری : جناب چیئرمین! آج آپ کو اتفاق رائے سے چیئرمین منتخب کرنے کا یہ سبب ہے کہ آپ کی چالیس سالہ خدمات ہمارے سامنے موجود ہیں اور آپ مختلف اوقات میں مختلف عہدوں پر جو خدمت انجام دے چکے

ہیں ان کی بناء پر آپ کو نہ صرف سارے ملک کے لوگ بلکہ ملک سے باہر کی دنیا کے لوگ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ اس عہدہ جلیلہ کے مستحق ہیں، آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹ میں دوسری مرتبہ منتخب ہو کر آیا ہوں اس میں آپ انصاف کریں گے جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری یقیناً تحریر میں موجود ہے۔

ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ ہمارے ممبروں کے حقوق کا تحفظ اور ہماری عزت اور وقار ہے جیسا کہ اس ایوان بالا کے ممبران کا ہوتا ہے۔ مزید میں Point out کرتا ہوں کہ اسی طرح سے ہمارے ممبروں کے حقوق کا تحفظ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔

آج جناب صدر صاحب سے ملاقات کے دوران تمام سینٹرز موجود تھے، میں نے ایک تجویز پیش کی کہ دو سال، چار سال، چھ سال کا قانون جو تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، موجود ہے، اس پر نظر ثانی فرمائی جائے۔

چونکہ میں اپنا ذاتی تجربہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس معزز ایوان میں ایک معزز ممبر کے لئے دو سال کا عرصہ ناکافی ہوتا ہے۔ کہ وہ پہلے دو سال کے لئے آئے اور پھر اس اچھے ایوان سے نکل جائے۔ اگر نیا ممبر ہوگا تو اسے دو سال میں یہ کام سمجھنا قدرے مشکل ہوگا وہ تجربہ حاصل کرے گا۔ تجربہ حاصل کر کے ایوان میں موجود نہ رہنا اس سے بھی زیادتی ہوگی اور اس ایوان سے

بھی۔ ہمیں آگے اچھے اچھے آدمیوں کو Provide کرنا ہے اگرچہ یہ ایک طریقہ ہے کہ پرانے جاتے ہیں اور نئے آتے ہیں۔ اگر وہ تجربہ کار آدمی چلا جائے۔ اور دو سال کے لئے سبھی حصے میں آئے وہ بھی ہمارے اس معزز ایوان

کے لئے نقصان دہ ہے چنانچہ میں نے تجویز کیا کہ چار سال اور چھ سال کی میعاد، دو حصوں میں تقسیم کر دی جائے۔ جناب صدر نے بھی اس مسئلے کو بنور سنا اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور تمام ہاؤس کی یہی رائے ہے جو میں تجویز کرتا ہوں کہ ہاؤس کی میعاد چار سال اور چھ سال

ہونی چاہیے۔

ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا اور میرے دوستوں کا آپ کو مکمل تعاون حاصل ہوگا اور ہر ممکن حد تک اپنی خدمات یا تجربات آپ کو کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔
جناب چیئرمین : شکریہ ! ڈاکٹر مجبور الحق صاحب۔

Dr. Mahbub-ul-Haq : Mr. Chairman, let me also congratulate you on your assumption of this high office. Your unanimous election, Sir, merely reflects the maturity of this House. No one in this country has given so much for so long with such undiluted commitment. We are fortunate indeed that at a critical transition in our history we have your steady hand at the helm of the affairs of this Senate. We congratulate not only you Mr. Chairman but ourselves also. Thank you.

Mr. Chairman : Thank you. Mir Yousaf Ali Khan Magsi.

Mir Yousaf Ali Khan Magsi : Mr. Chairman, I congratulate you on occupying the august Chair in which you are sitting. Your capability, your integrity and your honesty is undoubtedly well-known. But with that I also congratulate those candidates who filed their nomination papers and then withdrew that of their own free will and thus they have made the honour and name of Pakistan very high by showing their sincerity, brotherhood and unity. They are very much worthy of our congratulations and I myself feel honoured under your guidance and under your Chairmanship. With that I also agree with Mr. Zehri's proposal. There is no doubt that within two year no member can work up to his capability and I hope you will be looking in to it and see that it should be changed as Mr. Zehri has suggested. Thank you.

جناب چیئرمین : شکریہ۔ شاد محمد خان۔
جناب شاد محمد خان : جناب چیئرمین ! میں آپ کو مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ان اصحاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فراخدلی کا مظاہرہ کر کے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کیا۔